

کتابتیں سے ہر روز

اُردو، پنجابی، انگریزی اور رباعیات
پر مشتمل مجموعہ



مکتبہ توحید و تہذیب، ضلع گلبرگ، فیصل آباد

صوفی محمد شہا الدین شہاب سیفی حنفی

اُردو، پنجابی نعتوں اور رباعیات پر مشتمل مجموعہ

میں اکھ کھولاں یا سو جاواں
مذہبہ شامعہ ہونے

مُصَنَّف

صوفی محمد شہاب الدین شہاب سیفی حنفی



مکتبہ نوریہ رضویہ گلبرگ آف فیصل آباد

041-2626046 ①

ترجمین و اہتمام
سید حمایت رسول قادری

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب	مدینہ شامعہ ہونے
نظر ثانی	حافظ محمد حسین حافظ
کمپوزر	ساجد علی قادری سلطانی
صفحات	
اشاعت	بار اول
تعداد	4100
مطبع	اشتیاق اے مشتاق پرنٹرز لاہور
ناشر	مکتبہ نوریہ رضویہ گلبرگ اے فیصل آباد
قیمت	80 روپے
بیرون ملک	لندن 5 پاؤنڈ

ملنے کے پتے

مکتبہ نوریہ رضویہ

نوریہ رضویہ پبلیکیشنز

گلبرگ اے فیصل آباد فون: 2626046

11 گنج بخش روڈ لاہور فون: 7313885



اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے

انتساب

میں اپنی اس کتاب کو مرکز دائرہ عصمت
 مجسمہ عفت و طہارت، محور عظمت و سیادت محزن صدق و
 صداقت، معدن طریقت و ولایت، منبع حقیقت و معرفت
 عارف علوم نبوت آئینہ کمالات رسالت قاسمہ
 جواہر نبوت مفتاح ابواب رحمت خاتون قیامت
 سیدۃ النساء اہل الجنتہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ عالیہ میں
 اپنی قلم کا سر خم کرتے ہوئے ہدیہ عقیدت پیش کرتا ہوں۔

صوفی محمد شہاب الدین شہاب سیفی حنفی

نذر عقیدت

عارف جہاں سلطان العاشقین شیخ العلماء نازش اولیاء آفتاب نقشبندیہ

حضرت فقیر

محمد امجد ظہیر (وکیل سرکار)

محمدی سیفی حنفی ماتریدی دامت برکاتہم العالیہ

مرشد آباد شریف جھنگ روڈ فیصل آباد

شہاب الدین شہاب سیفی

بفیضانِ نظر

1

پیر طریقت رہبر شریعت سیدی و مرشدی

فنا فی المرشد حضرت پیر

محمد حنیف بٹ

محمدی سیفی

آستانہ عالیہ محمدیہ سیفیہ لندن

سگ در مرشد شہاب سیفی

دیباچہ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔

اما بعد اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی بارگاہ میں غلامانہ اور عاجزانہ پیش کرنے کے بعد اس کتاب کے بارے میں ہی کہوں گا کہ:

کیا میں اور کیا ہے حقیقت میری

کامل مرشد یہ سب ہے نسبت تیری

یہ سارا فیض میرے مرشد پیر طریقت رہبر شریعت سیدی و مرشدی

جناب صوفی محمد حنیف بٹ محمدی سیفی دامت برکاتہم عالیہ کا ہے بیعت ہونے

سے پہلے بھی شعر لکھنے کا شوق تھا مگر کبھی خاص توجہ نہیں دی اور کبھی کوئی شعر لکھ





بھی دیا تو اس کی اصلاح جناب ریاض ضمیر صاحب سے لے لیا کرتا تھا پھر

جب پیر و مرشد کے پیر و مرشد سلطان العاشقین جناب محمد امجد ظہیر المعروف

حضرت وکیل سرکار صاحب لندن تشریف لائے تو عاجز کے چند اشعار جو

لکھے ہوئے تھے وہ آپ کے حضور پیش کیے تو آپ نے دعا فرمائی اور حکم دیا

کہ نعت شریف خوب لکھا کرو ہمارے ہاں خطہ پوٹھو ہار میں نعت رباعی میں

لکھی اور پڑی جاتی ہے اس لیے عاجز نے پاکستان کے بزرگ نعت گو  لکھی اور پڑی جاتی ہے اس لیے عاجز نے پاکستان کے بزرگ نعت گو  جناب حافظ محمد حسین حافظ صاحب سے رابطہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا اگر تم میرے پاس ہوتے تو میں تمہاری پوری پوری رہبری کرتا کیونکہ شاگرد کو وقت دینا پڑتا ہے اور اب میری طبیعت بھی زیادہ ٹھیک نہیں رہتی تو تمہیں کسی اچھے استاد کی ضرورت ہے۔ جو زیادہ وقت دے سکے تو عاجز نے جناب قبلہ پیر سید ناصر حسین شاہ چشتی دامت برکاتہم عالیہ (جو کسی تعارف کے محتاج نہیں) کی باقاعدہ شاگردی اختیار کی اور عاجز لفظوں میں تو جناب قبلہ استاد محترم شاہ صاحب کا شکر یہ ادا نہیں کر سکتا کہ جس طرح آپ نے اپنی دن بھر کی مصروفیت کی وجہ سے عاجز کو وقت دیا اور حوصلہ افزائی فرمائی اور پھر جب عاجز نے حضرت وکیل سرکار صاحب کو پہلی نعت سنائی تو آپ ان دنوں مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے تو آپ نے دعا فرمائی اور اپنے پیرومرشد کا فیضان نظر اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک کا صدقہ کہ کوئی دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بات نہ لکھی ہو آج یہ میرے پیرومرشد کا فیضان نظر ہے کہ یہ کتاب (مدینہ سنامنے ہوئے) آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ عاجز نے کوشش کی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ثناء خوانوں میں اپنا نام آجائے ورنہ کسی کی کیا مجال کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ لکھ سکے جب کہ خدا خود فرما رہا ہے **وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ** "اے  ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا جب خود خدا اپنے محبوب 

ذکر بلند کر رہا ہے تو پھر کوئی کیا لکھ سکتا ہے۔ اسی لیے عاشق رسول جہاں
حافظ صاحب فرماتے ہیں:

میں کی لکھاں جیدی شان اندر رب نے پورا قرآن ہے جوڑ چھڈیا
میں کی لکھاں تیری شان اندر منہ پرے تخیل دا موڑ چھڈیا
اہدے جوڑے دی عظمت نہیں لکھ سکے شاعراں زہناں دا عرق نچوڑ چھڈیا
حافظ سوہنے محمد ﷺ دی مدح لکھ کے قلم قدرت نے اپنا توڑ چھڈیا

اور میرے استاد محترم اپنے عشق کا اظہار ان لفظوں میں کرتے ہیں اور ہر
عاشق کی بھی یہی دعا ہونی چاہیے:

تو ناصر شاہ دی اے مولا ایہہ پوری التجا کر دے
قبر وچ جس گھڑی جاواں مدینہ سامنے ہووے

دعا کرتا ہوں کہ یہ کتاب آقا دو جہاں کی بارگاہ میں منظور و مقبول ہو اور

قیامت کے دن آقا ﷺ دو جہاں تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ حضرت محمد ﷺ
کی کالی کملی کے سائے میں اٹھنا نصیب فرمائے۔ (امین ثم امین)
اور دعا کرتا ہوں کہ میرے مرشد مجھ سے راضی ہو جائیں۔ کیونکہ!

دعا منگیا کرو سنگیو کدے مرشد نہ رس جاوے

جہاں دے پیر رس جاوے اوچیندے وی مرے رہندے

عاجز تو اپنے مرشد کے دربار کا ادنیٰ سا سگ ہے۔ ہر وقت ہاتھ پاؤں مارتا رہتا ہے
شاید مرشد کی نظر پڑ جائے اور رحم کا ٹکڑا پھینک دیا جائے۔ اپنے مرشد کی نظر ایک
رباعی کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔

تیری نگاہ دے نال شکار ہو کے . مٹھیاں درواں دی دل جاگیر بنیا
تیری نظر محبت دے نال سائیاں میرا دل وی تیرا اسیر بنیا
میں قربان نواز شاں تیریاں توں تیری گلی دا میں وی فقیر بنیا
تیری نظر کریمی شہاب تے پئی مٹی ہے سی تے ایہے اکسیر بنیا
سگ در مرشد شہاب سیفی

(پاکستان کا پتہ)

صوفی محمد شہاب الدین شہاب سیفی حنفی

ضلع راولپنڈی تحصیل کلر سیداں ڈاکخانہ چوخالصہ گاؤں موہڑہ ہیراں

(لندن کا پتہ)

223 Green Lane

Nor Bury

London

Sw 16-3Ly

اظہار تشکر

اس بابرکت کام کی تکمیل کے وقت سب سے پہلے میں اپنے رب قدوس کے حضور شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے مرشد کریم جناب صوفی باصفا محمد حنیف بٹ صاحب کی شکل میں ایک ہستی عطا فرمائی جس نے نہ صرف ہمارے دل و دماغ کے مقفل (تالے) دروازوں کو وا کر کے شعور کی منزل کے ساتھ ساتھ مجھے جدید زاویے سے سوچنے کا شعور دیا بلکہ تاجدار کائنات سلطان الانبیاء کی سیرت مطہرہ ﷺ کی عملی تصویر اپنانے کا شعور سیکھایا۔

نبی کریم ﷺ کی ذات قدسی صفات اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیش قیمت خزانہ ہے۔ آپ ﷺ چونکہ خاتم النبیین ہیں اس لیے رشد و ہدایت کی ذمہ داری علمائے کرام اور مشائخ عظام پر آن پڑی۔ ان عظیم ہستیوں نے اپنی نظر کیمیاء اثر سے دلوں کو روشن اور دماغوں کو جگمگا دیا۔

دور حاضر کی ان عظیم ہستیوں میں میرے پیر طریقت رہبر شریعت سیدی و مرشدی صوفی حنیف بٹ محمدی سیفی صاحب کا اپنا ایک مقام ہے۔

خالق ارض و سماء کے کارخانہ قدرت سے عالم دنیا میں روزانہ ہزاروں

انسان اس جہاں میں جنم لیتے ہیں اور روزانہ موت کی وادی میں گم ہو جاتے ہیں ان میں سے بعض ایسے انسان بھی آئے جو صرف اپنی ذات اور غرض تک محدود رہے اور کچھ ایسے افراد بھی اس دنیا میں رونق افروز ہوئے جنہوں نے اپنی شبانہ روز محنت دینی و ملی خدمات کا پیکر بن کر انسانوں کی فلاح و بہبود اور بندگانِ خدا کی رب کریم تک رسائی کا کام کر کے اپنا نام لوگوں کے دلوں میں چسپاں کیا۔

تاریخ کے اوراق اس قسم کی عظیم شخصیات سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہی عظیم قد آور تاریخ ساز ہستیوں میں ایک ہستی جو شاعری کے میدان میں بلند پایہ شاعر تقرر کے میدان میں اعلیٰ قسم کے مقرر اور روحانیت کے میدان عشق رسول ﷺ کی منزلوں کو طے کروانے والے حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت شاعر اہلسنت جناب حضرت علامہ پیر ناصر حسین چشتی ہیں۔



ایں سعادت بزورِ بازو نیست

نعت تب سے شروع ہے جب سے اللہ جلہ جلالہ نے اپنے نور کے فیض سے اپنے محبوب کو بنا کر درود بھیجا یہی پہلا درود شریف ہی نعت مصطفیٰ تھی۔ اس سے جو اہم بات ذہن میں آتی ہے وہ تو ظاہر ہے کہ نعت کی ابتدا یا تو خدا جانتا ہے یا حبیب کبریا جانتا ہے کیونکہ کب، جب، تب کی یہاں گنجائش ہی نہیں کوئی ہوتا تو حساب بھی لگاتا بہر حال زمانے میں ہزاروں تغیر و تبدل آئے اور آتے رہیں گے مگر نعت نعت ہی تھی اور رہے گی تا ابد یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا اگر کوئی نعت لکھتا ہے تو اپنے ایمان کی قد و قامت بڑھاتا ہے اگر نہیں کہتا تو نعت کی عظمت اور صاحب نعت کے مقام کو نہ بڑھا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے چونکہ میں پروفیشنل تبصرہ نگار یا نقاد نہیں ہوں مگر ایک عاشق رسول نوآزمود اور جواں فکر دربار رسالت کے شاعر کیلئے چند سطور رقم کر دی ہیں زیر نظر مضمون میرے ایک عظیم دوست جناب شہاب سیفی جو کہ ان دنوں لندن میں مقیم ہے کی کتاب ”مدینہ سامنے ہووے“ پر کچھ لکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جناب شہاب سیفی صاحب جو کہ وطن سے دور دریا فرنگ میں نعت مصطفیٰ کی نواریں قندیل روشن کیے بیٹھے لوہیں وہاں نعت کا ماحول اتنا سازگار بھی نہیں نعتیہ محفلیں اور مشاعرے بھی کم کم ہیں

ان اندھیری فضاؤں میں نعت کا چراغ جلانا عبادت بھی ہے اور سعادت بھی۔
ایسے عاشق مدینہ کی حوصلہ افزائی نہ کرنا ان کے نابالغ فن سے ناانصافی ہے ابھی
ابھی سیفی صاحب میدان نعت میں نو واد رہیں مگر ان کے اندر ایک پختہ اور مکمل
شاعر جھانکتا ہوا نظر آتا ہے۔ جوں جوں وقت گزرتا جائے گا ان کے فن پر بفضل
خدا و مصطفیٰ نکھار آتا جائے گا وہ وقت دور نہیں شہاب سیفی کا نام آپ منجھے ہوئے
اور کہنا مشق دربار رسالت کے شاعروں میں پائیں گے وہ اپنی اس کاوش کو تاجدار
حرم کی نگاہ کرم اور اپنے مرشد و مربی کی نظر عنایت قرار دیتے ہیں اور ان کا یہ کہنے
بالکل ٹھیک ہے کبھی کبھی مجھ جیسے کم علم کم فہم سے مشورہ اور اصلاح کا کام بھی لے
لیتے ہیں میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں نہ تو اتنا اچھا شاعر ہوں نہ محقق ہوں مگر اس
نوجوان شاعر کی ہمت بڑھانے کیلئے اور اپنی بخشش کیلئے ان کا ہاتھ بٹائے رکھتا
ہوں خدا کرے ان کی عمر سرکار ابد قرار کی مدحت میں بسر ہو۔

آمین بجاہ سید المرسلین ﷺ

احقر العباد: سید ناصر چشتی کچہ تاندلیا نوالہ والا فیصل آباد

موبائل 0333-8974410

0300-6668725



تقریظ

مجھے یہ لکھتے ہوئے مسرت ہو رہی ہے کہ شہاب نے مدینہ سامنے ہووے کتاب لکھ کر ایک دلچسپ اور مفید تصنیف کا اضافہ کیا ہے مدینہ سامنے ہووے کا مقصد قارئین کے دلوں میں سرکارِ مدینہ ﷺ کی محبت اور ان کی اتباع کے لیے جوش و ولولہ پیدا کرنا ہے قارئین میں ایسی کتابیں پڑھنے سے کتبِ بنی کا شعور فروغ پاتا ہے، سوچ و بچار میں نکھار آتا ہے ذہن کو وسعت ملتی ہے اور اس کے آداب کا مطالعہ زندگی کو کامیابی سے ہم کنار کرتا ہے اور یوں اپنے لیے نئی نئی منزلیں متعین کرنے کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔

ایسی شاعری کی کتب تحریر کرنے کیلئے کافی گہرائی میں مطالعہ کرنا ضروری ہے اور پھر اسے سلیس زبان میں پیش کرنا بھی امرِ محال ہے شہاب نے یہ کتاب پیش کر کے ایک عظیم کارنامہ سرانجام دیا ہے ان کی یہ کتاب۔ ”مدینہ سامنے ہووے“ صرف قارئین کے لیے نفع بخش بلکہ نقیبوں نعت خوانوں اور خطیبوں کے لئے ایک انمول تحفہ ہے مجھے امید ہے کہ یہ کتاب بے حد مقبول ہوگی اور بالخصوص شاعروں کے حلقہ میں قدر کی نگاہ سے دیکھی جائے گی اور قارئین کے لئے کافی

فائدہ مند ثابت ہوگی کیونکہ مصنف نے تحقیق کے بعد اسے لکھا ہے اور اس کو مفید کارآمد بنانے کیلئے کوئی کسر نہ چھوڑی ہے۔

یہ سارا فیض پیرو مرشد کا ہے اور استاد کی محنت کا نتیجہ ہے شہاب نے لندن سے مجھ سے رابطہ کیا کہ میری رہبری کریں طبیعت کی علالت کی وجہ سے اور عمر کا تقاضہ ہونے کی وجہ سے میں ٹائم نہ دے سکا۔ میں نے کہا کیا آپ پیر سید ناصر شاہ چشتی سے رابطہ کریں۔

اب یہ باقاعدہ ناصر شاہ صاحب کی شاگردی میں سیکھ رہے ہیں اور نعت سرکار لکھ رہے ہیں۔ ۲۵، ۲۶ سال کی عمر میں شاعری لکھنا بڑا مشکل کام ہے شہاب پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ جس نے چھوٹی سے عمر میں اپنے محبوب کی نعت لکھنے کے لئے جن لیا ہے اور شاعری کا ملکہ عطا کیا ہے۔

اس کی پہلی کتاب مکتبہ نوریہ رضویہ گلبرگ اے (فیصل آباد) کی جانب سے بازار میں آئی ہے ماشاء اللہ عام نعتیہ کتب سے منفرد کلام ہے قاری حضرات داد دیئے بغیر نہیں رہ سکیں گے تمام کلام میری نظر سے گزرا ہے اسے پیر سید ناصر شاہ چشتی نے درست فرمایا ہے میری دلی دعا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ایک ایک لفظ منظور و مقبول ہو اور میدان محشر میں بخشش کا ذریعہ بنے آمین ثم آمین۔

نعت گو شاعر

حافظ محمد حسین حافظ (فیصل آباد)

ک

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

حمد

تیری حمد ربا میں کی کر سکدا جو وی چاہویں تو کر کے دکھا دینا نہیں
 کرنا چاہویں تو جیہڑی وی چیز پیدا صرف لفظ کن فرما دینا نہیں
 جیہڑا دریا پار کلیم کر دا اوہدے وچ فرعون رُہڑا دینا نہیں
 موسیٰ واسطے لن ترانیاں نہیں سوہنے لئی حجاب اٹھا دینا نہیں
 رتبہ پاک خلیل دا دسنے لئی چھری پتر دے گلے رکھوا دینا نہیں
 اپنے نبی ﷺ نوں پانی پلان بدلے زم زم پتھراں وچوں چلا دینا نہیں
 پیاسے رکھ کے کربل وچ شہزادے حیرت وچ کائنات نوں پا دینا نہیں
 جانے تیریاں توئیوں ای یا مولا عقل ہوش نوں وخت توں پا دینا نہیں
 جے تو چاہویں شہاب جے آسیاں نوں نعت لکھن دے گر سمجھا دینا نہیں

الضَّلَاوَةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

کیوں کر ایں میں تیری تعریف رہا ناقص عقل تے ناقص زبان رکھنا
نہ ایں پڑھیاں نحو گریہاں میں نہ ایں سینے وچ علم دی کان رکھنا
نہ میں قاضی عیاض دا بہم پایہ نہ میں وانگ صحابہ دے شان رکھنا
راضی ہوں شہاب حضور میرے ایہو دل دے وچ ارمان رکھنا



صفتاں تیریاں کران بیاں کیوں خالق مالک کریم وود توں ایں
جس دے اگے کائنات پئی جھک دی اے میرے مالکا اوہ مسجود توں ایں
تیری قدرت دے تھاں تھاں ہیں جلوے جگہ جگہ دے اتے موجود توں ایں
حکم دینا ایں آپ شہاب تائیں خود وی سوہنے تے گھلدا اورود توں ایں

التجا

ہے دعا میری ایہہ خدا اگے میری موت کچھ ایسی عجیب ہووے

پہنچ جانواں میں در رسول اُتے جان نکلن دے جدوں قریب ہووے

قبر جنت بقیع وچ بے میری مٹی طیبہ دی میرے نصیب ہووے

عشق نبی دی دولت جے کول ہوئے بندہ کیوں اوہ فیر غریب ہووے

قبر حشر کولوں اوانے ڈرنا کی جدے سامنے اوہدا طیب ہووے

گھڑیاں آخری ہون شہاب سیفی اکھیں سامنے میرا حبیب ہووے

الضَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

آؤن والیو ہونے دی بزم اندر میں تے سب نوں پیش سلام کرنا
پڑھوتسی وی سارے درود رل کے میں وی عرضاں پیش غلام کرنا
درود منداں دے درود جگاؤنے لئی درود بھر یا پیش کلام کرنا
نسبت سیفی شہاب ہے نام میرا صبح و شام ایہہ درود میں عام کرنا



لکھ لکھ شکر اے قادر کریم تیرا سب تے کرم تیرا بے حساب رہندا
اوہ نہیں دنیاوی کدی شراب پیندا تیرے درتوں جو پیندا شراب رہندا
ترے عشق دی مہک رہے وچ سینے پھلاں وچ ہے جیویں گلاب رہندا
ایہنوں ذرا انگینڈ دی چاہ کوئی نہیں تیرے یار دے بو ہے شہاب رہندا

11117

الْصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

میرے مالکا مینوں تو تے جاننا ایں تیتھوں میرے پوشیدا احوال کوئی نہیں
پیش کراں جو تیرے حضور آکے میرے ایہو جے اعمال کوئی نہیں
صدقہ نبی کریم دا کرم کر دے ہو امیر اتنے تیرے سوال کوئی نہیں
اے شہاب غلام حضور دا اے دوجا ایس اچ ہور کمال کوئی نہیں



میرے مالکا معاف تصور کر دے تیری بارگاہ وچ گناہ گار آیا
ساری زندگی گزر گئی غفلتاں وچ مولا ہو کے ہاں شرمسار آیا
تینوں واسطہ اپنے یار دا اے تیرے در اتے خاکسار آیا
ویدیے ربا قرار شہاب تائیں ٹٹا دل لے کے بے قرار آیا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تو

صَلَاتُكَ اللَّهُ
 عَلَى الْأَنْبِيَاءِ
 وَآلِهِمْ
 وَسَلَّمَ
 يَا رَسُولَ اللَّهِ

نعت شریف

اے در مصطفیٰ کے گداؤ
 پوری ہونگی سبھی کی مرادیں
 زندگی تو بڑی بے وفا ہے
 اُن کی یادوں میں کچھ دیر کھو کر
 میرے آقا تو رحمت قلب ہیں
 کر کے چہرہ مدینے کی جانب
 اے فقیر و صدا کر کے دیکھو
 ان کے ہاں تو کمی کچھ نہیں ہے
 کیجئے مصطفیٰ ﷺ کی غلامی
 سر جو کعبے کی جانب جھکے ہوں
 اے شہابِ حزیں تم بھی کر لو
 جالی سینے سے اپنے لگا کر
 آؤ میلاد اُنکا منا لو
 اُن کی محفل میں آنسو بہا لو
 اسکا کوئی بھروسہ نہیں ہے
 اپنا فردوس میں گھر بنا لو
 آپ آئیں گے فریاد سن کر
 ہجر کی آگ اپنی بجھا لو
 تم ذرا التجا کر کے دیکھو
 تم بھی دامان اپنے بجھا لو
 تاجور تم کو دیں گے سلامی
 دل مدینے کی جانب جھکا لو
 پوری حستان پیارے کی سنت
 انکی نعتیں انہی کو سنا لو

نعت شریف

کراں دربار وچ آکے صداواں یارسول اللہ

کرے رب پوریاں سب التجاواں یارسول اللہ

قبر ہووے حشر ہووے پڑھاں میں تیریاں نعتاں

میتر تیریاں ہوون پناہواں یارسول اللہ

بلا لے آستانے تے جدائی جین نہیں دیندی

کتے بوندیاں ہی میں ہن مرنہ جانواں یارسول اللہ

نہ مینوں لوڑ دنیا دی نہ میں شاہی دا طالب ہاں

گدا تیرے گداواں وا سداواں یارسول اللہ

بھڑک اٹھدی جدائیلیں دی ہے آگ سینوں وچ میرے

جدوں طیبہ چوں آجاون ہوا واں یارسول اللہ

شہاب آکھے بلا لے ہن بلا لے ہن نکمے نوں

تیرے قدماں دے وچ نعتاں سناواں یارسول اللہ

نعت شریف

جھکی ہوئی ہے جبین دل بھی لبوں پہ آقا کا نام آیا

قلم بھی لگتا ہے سر بہ سجدہ ادب کا ایسا مقام آیا

حضور ﷺ والا کی ذات پر جب سلام بھیجا تو پھر نہ پوچھو

خدا کی جانب سے میری جانب خدا کے گھر سے سلام آیا

ہوا یہ محسوس جام کوثر چھلک رہا ہے میری نظر میں

جو میرے آقا ﷺ کے ذکر انور کا میرے ہونٹوں پہ جام آیا

وہیں وہیں پر پروں کو اپنے بچھا دیا ہے ملائکہ نے

جہاں جہاں بھی رسول عربی خدا کا دینے پیام آیا

شہاب دل کی یہ آرزو ہے رسول اکرم کے در پہ جا کر

صدا لگاؤں نواز دیجئے حضور در پر غلام آیا

نعت شریف

آنکھوں سے اشک برستے ہیں تنہائی روز ڈراتی ہے

آتا ہے رونا دوری پر جب یاد نبی ﷺ کی آتی ہے

کب شہر میں تیرے گھومو نگارو ضے کی جاٹی چوموں گا

اس حسرت پر روتے روتے خود آنکھ لہو ہو جاتی ہے

جینے کا ایک سہارا ہے اس آس پہ اب تک زندہ ہوں

کب مجھ پہ کرم فرماتے ہیں کب میری باری آتی ہے

طیبہ کے ہجر میں اے یارو اب جاں بھی نکلنے والی ہے

مت پوچھو حالت اس دل کی جب یاد انکی تڑپاتی ہے

دیکھا ہے شہاب مدینے میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے

اے مانگنے والے مانگے جا رحمت آواز لگاتی ہے

نعت شریف

مینو اپنا دکھا دے دربار سوہنیا

میرے لیکھاں وچ ہووے تیرا پیار سوہنیا

جتھے رات ساری ساری کیتی عاصیاں لئی زاری

جا کے اکھاں نال ویکھاں میں اوہ غار سوہنیا

بھاویں ہووے یار غار بھاویں حیدر کرار

سارے جگ نالوں سوہنے تیرے یار سوہنیا

سارے دکھ مٹ جان خواب تیرے مینوں آن

کراں دید تیری رہواں سرشار سوہنیا

بھاویں ساری کائنات لکھے سدا تیری نعت

تیرے ہون گے کمال نہ شمار سوہنیا

پاؤے ترے شہاب اے رسالت ماب

دینا وقت نزع آ دیدار سوہنیا

نعت شریف

جہاں کا تاجور ٹھہرے جو آپکا سوالی ہے

عطائے مصطفیٰ ﷺ لوگو کتنی بے مثالی ہے

جبرائیل پھرتا ہے خود وہاں گداؤں میں

شہر مصطفیٰ ﷺ تیری بات ہی نرالی ہے

آپ کے پسینے سے آپ کے مدینے میں

گلستان بہاراں ہے مہکی مہکی ڈالی ہے

کیوں جھکے شہاب اسکا سر کسی کے قدموں میں

جس نے بھی جبیں اُن کے قدموں میں جھکالی ہے

نعت شریف

ہے یہ آرزو میرے مصطفیٰ تیرے در پر حاضر غلام ہو

تیرے ہاتھ سے جو ملے مجھ کو میرے نصیب میں جام ہو

ہو جو آستانے پہ حاضر ہو میرے لبوں پر یہی دعا

میرے سرور امیری زندگی تیرے آستان پر تمام ہو

تیرا عشق ہو میرا رہنما کروں ورد میں تیرے نام کا

اسی کام میں رہوں میں مگن مجھے اور کوئی نہ کام ہو

مرا یوں جھکے کبھی سروہاں مجھے یاد آئے نہ گھر وہاں

ہو مدینے حاضر شہاب جو وہیں زندگانی کی شام ہو

نعت شریف

غریبوں کا فقط تو ہے سہارا یا رسول اللہ ﷺ

گدا سارا جہاں ہے بس تمہارا یا رسول اللہ ﷺ

بھلا غیروں سے کیوں مانگے اُسے غیروں سے کیا مطلب

جو کھاتا ہے سدا لنگر تمہارا یا رسول اللہ ﷺ

تیرا خادم کوئی آقا کبھی دوزخ نہ جائے گا

نہیں ہے بات یہ تجھ کو گوارا یا رسول اللہ ﷺ

تلاطم خیز موجوں نے جو گھیرا میری کشتی کو

ملا تیرے وسیلے سے کنارہ یا رسول اللہ ﷺ

زمین و آسمان نجم و قمر حورانِ جنت بھی

ہے تیرا ہی جہاں سارے کا سارا یا رسول اللہ ﷺ

مدینے سے شہابِ بے نوا کی بھی تو نسبت ہے

کہے کیسے کہ ہے یہ بے سہارا یا رسول اللہ ﷺ

نعت شریف

جو لوگ مدینے جاتے ہیں
 منہ مانگی مرادیں پاتے ہیں
 چھوڑ آتے ہیں دل و جان وہاں
 خود لوٹ گھروں کو آتے ہیں
 سرکار کے ذکر انور سے
 ہر محفل کو گرماتے ہیں
 لاکھوں کی وہاں پر تقدیریں
 اک نظر سے وہ بدلاتے ہیں
 ذرے بھی شہاب مدینے کے
 سب لعل و گوہر بن جاتے ہیں

نعت شریف

جلوہ آپ دا جہدے چوں نظر آوے

میرے مولا اوہ مینوں آئینہ دے دے

رہوے دھڑکدا سوہنے دنی یاد اندر

ایسا درد بھریا مینوں سینہ دے دے

لوکی کرن نصیباں تے رشک میرے

عشق نبی دا مینوں خزینہ دے دے

ایہو صرف شہاب پیا منگدا اے

بدلے جنت دے مینوں مدینہ دے دے

نعت شریف

مدینے شہر کی فرقت میں جلتا ہے میرا سینہ

بلا لو یا رسول ﷺ نہیں ممکن یہاں جینے

نہ طالب مال و زر کا ہوں نہ لالچ مجھکو دنیا کی

فقط دیدار کی رکھتا ہوں خواہش ایک دیرینہ

در محبوب سے دور ہی محرومی ہے جنت سے

در جنت کا پہلا ہے در سرکار ہی زینہ

فقط آقا کی یادوں میں مگن رہتا ہوں میں ہر دم

لگایا ہی نہیں اعمال کا میں نے تو تخمینہ

شہاب اللہ کے جلوؤں کی جو چاہیں جھلک دیکھیں

جمال مصطفیٰ کا سامنے رکھ لیں وہ آئینہ

نبی کے ہجر میں کٹتے ہیں رور و رات دن میرے

نہ مجھکو یاد ہے کھانا نہ مجھکو یاد ہے پینا

نعت شریف

سجا ہے جس کے لیے زمانہ وہ آج عالی وقار آیا

تمام قرآن ہے نعت جسکی خدا کا وہ شاہکار آیا

خدائے برتر کی پاک ہستی مدام جس پر سلام بھیجے

وہ انبیاء کا امام آیا وہ رب عالم کا پیار آیا

نواز دینا ہے کام ان کا لقب ہے ماہ تمام انکا

زباں پہ آیا جو نام انکا سکوں آیا قرار آیا

کریم آقا کریم والی تمھاری خیرات ہے مثالی

گیا نہ کوئی بھی در سے خالی فقیر یا تاجدار آیا

شہاب تری گلی میں آقا پڑا ہے تیرا فقیر بنکر

رہے سلامت تیری گدائی اسی یہ سب کچھ ہے وار آیا

قطعات

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ
 صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ
 صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ
 صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ
 صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ
 صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ
 صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ
 صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

الصلوة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله

مدینہ محبت دی جاگیر یارو
مدینہ تے شہراں دا ہے پیر یارو
شہاب آوے خالی نہ کوئی اوس درتوں
مدینہ بدل دیندا تقدیر یارو



میرے لب پہ شہاب اُن کی بات آگئی
آپ آئے تھے جس شب وہ رات آگئی
سازِ دل پہ چھڑی نعت یوں آپ کی
آج کوثر کے والی کی ذات آگئی

الْصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

پتھراں وچ گلاب مدینہ
 کر دا دل سیراب مدینہ
 فیر نہ دیکھے، کچھ وی شالا
 دیکھے جدوں شہاب مدینہ



مقدر ہو تو ایسا ہو صدا بھی ہو تو ایسی ہو
 پکاریں جس گھڑی انکو سماعت آپ فرمائیں
 شہاب ہم بے نواؤں کی بنی بگڑی اسی در سے
 گنگاروں کی محشر میں شفاعت آپ فرمائیں

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

مدینے شہر دا جو بن جاندا سگ اے
 اودے سر تے رہندی کرامت دی پگ اے
 شہاب اک مدینہ ہی جنت دا باغ اے
 مدینے توں باہر تے نفرت دی اگ اے



قربان میں جاؤں آقا پر کیا کیا وہ کرم فرماتے ہیں
 مجھ جیسے اوگنہاروں کو سینے کے ساتھ لگاتے ہیں
 مشکل میں شہاب پکارو تو یہ راز کھلے گا تم پر بھی
 مشکل میں گدا ہو کوئی بھی وہ مشکل حل فرماتے ہیں

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

یا محمد یا محمد پکائی جا توں
جنت وچ باغات ودھائی جا توں
بخشش واسطے پتھنوں اے شہاب کافی
صرف نعتِ رسول سنائی جا توں



پیارے محمد ہوں نہیں اور دوا میری
طیبہ کی فضاؤں میں مضمحل ہے شفا میری
مجھ کو نہ شہاب آئے در در پہ صدا کرنا
جاتی ہی نہیں باہر طیبہ سے صدا میری

الضَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

انکی یادوں سے پر رونق سینہ ہے
انکا ہو کر جینا ہی تو جینا ہے
پیارا ہے جو خود خلاقِ عالم کو
شہروں میں وہ ایک ہی شہرِ مدینہ ہے



مانگے تو کوئی آکر دربارِ رسالت سے
سرکار تو منکوں کو مایوس نہیں کرتے
کانٹے جو بچھاتا ہے رستے میں شہاب ان کے
کرتے ہیں معاف اس کو محسوس نہیں کرتے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

جیوں سید مدینے نون چھوڑ چلیا
لے کے ساتھیاں نون نال توڑ چلیا
قیامت تیک شہاب مثال بن گئی
بیڑا فاسقاں دا ہتھیں بوڑ چلیا



بیاں کربلا دی نہ ہووے کہانی
صبر کیتا منگیا نہ فاسق توں پانی
شہاب ایہہ نمازاں اذاناں تے کلمہ
حسین ابن حیدر دی ہے مہربانی

الْصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

خدا دی رضا لئی سی چھڈیا مدینہ
اٹھاوے نہ سر ہور کوئی کمینہ
شہاب ابن حیدر دا ممنون ہويا
ایہہ دین نبی تے محرم مہینہ



نہ کمال مجھ میں نہاں کوئی نہ زمانے بھر سے امیر ہوں
میں گدائے شہر رسول ہوں میں حبیب حق کا اسیر ہوں
نہ شہاب جو یہ ناز ہے یہی میری عزت کا راز ہے
جہاں تاجور ہیں جھکے ہوئے میں اس گلی کا فقیر ہوں

صَلَاتُكَ يَا اللَّهُ
 عَلَى مُحَمَّدٍ
 وَآلِهِ
 صَلَاتُكَ يَا اللَّهُ
 عَلَى مُحَمَّدٍ
 وَآلِهِ
 صَلَاتُكَ يَا اللَّهُ
 عَلَى مُحَمَّدٍ
 وَآلِهِ

ریا عیات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ

نور

مند انور جو میرے حضور ﷺ نون نہیں پکا پکا اوہ بھائی شیطان دا اے
 تہاڈے دل تحقیق ہے نور آیا ایہہ فرمان تے خود رحمان دا ہے
 دین دار اوہ کدی نہیں ہو سکدا منکر جہڑا وی پاک قرآن دا اے
 جان اوہنوں شہاب ایمان والا عظمت جہڑا حضور ﷺ دی جان دا اے



اپنے جہیا جو کہوے حضور تائیں مینوں لگدا اوہ مسلمان کوئی نہیں
 منکر جہڑا وی آقا دے نور دا اے آیا سمجھ وچ اہدی قرآن کوئی نہیں
 طابع دار حضور ﷺ دا نہیں جہڑا اوہدے جہیا شہاب شیطان کوئی نہیں
 من دا جہڑا حضور دی نہیں عظمت اوہدا دین کوئی نہیں تے ایمان کوئی نہیں

الضَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

دل دے نال نہیں اوہنے قرآن پڑھیا منکر جہڑا حضور ﷺ دے نور دا اے
نور بکھریا جو کائنات اندر سارا فیض اس فیض گنجور دا اے
اُہدی رحمت ہے سارے جہاں اتے والی وارث اوہ ہر مجبور دا اے
ڈردا نہیں شہاب اوہ کسے کولوں سایہ عیدے تے میرے حضور ﷺ دا اے



پہلے پیدا اے نبی ﷺ دا نور ہويا جابر پاک حدیث سنا رہے نیں
ایم مثلی نبی پاک میرے دیکھوں وچ بخاری فرما رہے نیں
نکتہ چینی حضور ﷺ تے کرن والے امتی نبی دا نالے سدوا رہے نیں
چل کے چال دورنگی شہاب سارے ظلم اپنی جان تے ڈھا رہے نیں

معراج

شب اسرای رب فرمان لگا میرے کول اے جان بہار آجا
تیرا رب خود عرش عظیم اُتے تیرا کر دا اے انتظار آجا
تیرے واسطے عرش نوں فرش کیتا سارے نوریاں دے تاجدار آجا
پردے چک کے تیرے لئی میں بیٹھاں آجا لنگ کے عرش توں پار آجا
میرے نبی حبیب رسول امی آجا کوئی اج پیار دی گل کرے

جیویں تیرے غلاماں نوں بخشنا میں گلے بیٹھ کے قول قرار کرے واپس ہوئے

اللہ پاک دے عرش نے عرض کیتی ذرا کر لاں ہور دیدار رک جا

جبرائیل تے نت دیدار کر دا میرے واسطے رب دے یار رک جا
 فیراے ہونیاں کدوں نصیب گھڑیاں بن کے کھڑے نیں نوری قطار رک جا
 سنے فلک ستاریاں عرض کیتی ساڈے واسطے گھڑیاں چار رک جا
 دتا سوہنے جواب تمام سن لو میرا جیویں تہانوں انتظار رہندا
 اوں دیکھو شہاب زمین اتے میری تک دا راہ ہر اک یار رہندا



جدوں پہنچے حضور ﷺ سی عرش اتے نوری کھڑے سن سارے قطار دے وچ
 دولہا عرش دا عرش بے آن والا ہے سن اوہ بے تاب انتظار دے وچ
 لبیاں اتے سجا کے سلام سارے کھڑے سارے سن آپ دے پیار دے وچ
 کمبل پوش نے جدوں نقاب چکيا جا کے بارگاہ پروردگار دے وچ
 لامکان دی جوہ وچ رب جانے کی کی کرم ہويا کی کی بات ہوگی
 ایناں سُنیاں شہاب اے عالماں توں کدیاں صدیاں دی خبرے رات ہوگی

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

کچی گل اے رات معراج والی راتوں ساریاں چوں افضل رات ہے سی
سد کے اپنے حبیب نون عرش اُتے آمو سامنے کرنی بات ہے سی
کوئی نبی نہیں اج تک جا سکیا پہنچی جتھے حضور وی ذات ہے سی
ایہ بہانہ شہاب معراج دا سی کرنی نال سوہنے ملاقات ہے سی



جھک گئے افلاک زمین ولے اج تے یار نون ملن ہے یار چلیا
ذکر چھڑیا اے وچ ملائکہ دے یار یار وا کرن دیدار چلیا
جتھے پر جبریل نہ مار سکیا خداں ساریاں لنگ اوہ پار چلیا
بخشنے جان سارے ایہہ شہاب ورگے لین رب توں ایہہ اقرار چلیا

الضَّلَاوَةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

جنت رب دی سوہنے نوں عرض کر دی کدوں سوہنا فیر توں آؤنا ایں

تیرے آیاتے لگے نیں بھاگ مینوں میرا کدوں فیر بھاگ جگاؤنا ایں

تیرے لئی غلمان وی تڑپدے نیں کدوں فیر دیدار کراؤنا ایں

مینوں حشر دے تیک خدامیرے تیرے نوکراں لئی سجاؤنا ایں

جنت تائیں حضور ﷺ نرمان لگے تینوں شور مچان دی لوڑ کوئی نہیں

تیرے لئی وی رحمت شہاب ہاں میں مڑمڑ ترلے پان دی لوڑ کوئی نہیں

کربلا

ہے سی ماہ محرم تاریخ دسویں آل نبی اتے امتحان آیا
 دوہتا نبی ﷺ دا نانے دے دین بدلے کربلا وچ ہون قربان آیا
 تڑپدا رہیا پیاسا معصوم اصغر ناں کوئی پانی دا گھٹ پلان آیا
 زلدے رہ رسول دے شہزادے ناں معصوماں نوں کوئی دفنان آیا
 سید زادے ای جانڈے کربلا وچ جھیرا تیراں دا ہے سی طوفان آیا
 راکھا ویکھ شہاب قرآن دا اج نیزے اتے قرآن سنان آیا

الضَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

ظلم نبی ﷺ دے دوہتے تے کرن والے کربلا اندر مسلمان ہے سن
ظلم وانگ درندیاں رہے کر دے کوئی ناں دے صرف انسان ہے سن
دھوکے نال بلایا سی وچ کوفے فاسق فاجر تے بے ایمان ہے سن
ٹکڑے جہاں نے ناطق قرآن گیتا پڑھن والے شہاب قرآن پسن



رونڈی کربلا چوں زینب پاک بی بی نانی پاک دے روضے تے آؤندی اے
جو جو گزری ہے کربلا اندر سارا رو رو حال سناؤندی اے
چم کے آپ دے روضے دی خاک زینب نالی اھاں دے نال لگاؤندی اے
نانا کی کی قیامتیاں بیتیاں نیں بھر بھر ہچکیاں درد سناؤندی اے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

بھر کے لے گئی کچا دے ساں کہوے زینب خالی آئی ہاں فر میدان وچوں
چند بچے میں لے کے مڑی واپس جھیرے بچ گئے اوس طوفان وچوں
تیری امت نے کیتا جو حال ساڈا دس نیں سکدی نانا زبان وچوں
تیرے دین توں سچ شہاب آکھے دیکے جاناں اوہ ٹرے جہان وچوں



حدوں ودھ کے ظالماں کوفیاں نے تیری آل دے اتے جفا کیتی
پڑھن والیاں کلمہ پاک تیرا ذرا شرم کیتی نہ حیا کیتی
امت سمجھ کے تیری کریم نانا اساں کوئی وی نیں بد دعا کیتی
تیری عظمت لئی سچ شہاب آکھے اساں ہر منظور سزا کیتی

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

آج نہ دین اسلام دا نام ہوندا جے شہید نہ سید شہیر ہوندے
دھوکے نال بلاندے نہ سیداں نوں کوفے والے جے روشن ضمیر ہوندے
ڈھاواں مار دی دھرتی کربلا دی مجد شہید سی جگ دے پیر ہوندے
کربلا دا ذکر شہاب سن کے درد منداں دے کالجے چیر ہندے



جاناں دے گئے ناناں دے دین خاطر مصطفیٰ والے مرتطی والے
ڈولے ویکھ کے ظلم نہ ظالماں دے صدق والے تے صبر و رضا والے
ظلم کیئے ہزاراں سی ظالماں نے اڑے حق تے رہے خدا والے
رد کر گئے شہاب مصیبتاں نوں دے گئے جان سارے کربلا والے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

آٹا من حسین دے غورتے کر مٹلاں کون ایہہ بھلا فرما رہیا اے
میں آں راضی جے ہووے حسین راضی سوہنا نکتہ خود سمجھا رہیا اے
میرے کولوں نہیں میرا حسین دکھرا مخفی راز توں پر وہ اٹھا رہیا اے
دساں شان شہاب حسین دی کی جنہوں سوہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڈا رہیا اے



کربلا اندر جو شہید ہویا زہرہ پاک دا بدر منیر یارو
گردن چہنے یزید دی خم کیتی بی بی زینب دا ہے سی ویر یارو
کنب گئی دھرتی اودوں سی کربلا دی لگا جدوں سی اصغر نوں تیر یارو
دتا کوفیاں دھوکہ شہاب جینوں اوہ سی سارے زمانے دا پیر یارو

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

ملک الموت جد آونا اے کول میرے میری اُس دن سجنو عید ہونی
ثابت قدم جے رہیا میں قبر اندر ہمتھیں جنت دی میرے کلید ہونی
آقا آون گے جدوں تشریف لے کے میری تربت ہے روشن مزید ہونی
نالے پڑھاں گا نعت شہاب اوتھے نالے نبی کریم ﷺ دی دید ہونی



ملک الموت جد آونا این ول میرے میرے لئی او گھڑی سعید ہونی
میںوں پتہ اے مرن توں بعد جا کے پوری آخری میری امید ہونی
جدوں رکھنا قبر دے وچ میںوں میری دوستو اوس دن عید ہونی
سارے مکے فیر شہاب رونے میںوں جدوں حضور ﷺ دی دید ہونی

الضَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

اللہ جانے کی ہوسی انجام اوہدا بندہ رب نون جیڑا بھلائی بیٹھا
اللہ پاک دے ذکر نو چھڈ کے تے ناچ گان دی محفل سجائی بیٹھا
جس دے دل وچ عشق رسول ہے سی اوہ آج دنیا نون سینے لائی بیٹھا
جنت چھوڑ کے ویکھ شہاب بندہ دوزخ اندر ٹھکانہ بنائی بیٹھا



جاگ جاگ خدا دا واسطہ ای تیری زندگی دی ہوگئی شام ہن تے
جس زندگی تے رہیا مان کردا اوہدا ہو گیا قصہ تمام ہن تے
نال جانے نیں چنگے اعمال تیرے لیندا رہو بس اللہ دانام ہن تے
دیناں پیناں شہاب حساب پورا آؤن والا تے اگے مقام ہن تے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

ملک الموت تو رک جا چند گھڑیاں قابل اکھ دیدار دی ہون دے توں
شاند وقت اخیر اوہ آجاوے اہدیاں راہواں دے اتے کھلون دے توں
یاد آقا دی پئی بڑپا وندی اے کھل کے اکھیاں نوں ذرا رون دے توں
جرم لکھاں شہاب دے ہین پلے مل مل ہنجواں نال آج دھون دے توں



رکھدے عشق دی راہوں تے پیر جیہڑے پینڈے کدوں فیراوناں دے مکدے نیں
روندے رہن جو ماہی دی یاد اندر ہنجو کدوں فیراوناں دے سکدے نیں
آتش اوناں دے سینے وچ ہور دھکدی تیر ہجر دے جدوں آٹھکدے نیں
جیہڑے کسے دے رہن شہاب بن کے کدوں شاہیاں دے اتے اوہ تھکدے نیں

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ


ایہو آرزو دلِ مغموم دی اے حاضر روضے دے اتے غلام ہووے
اپنے آپ دار ہووے نہ ہوش او تھے جاری لباب تے سوہنے دا نام ہووے
جا کے روضے تے ایہو دعا منگاں ایسے در تے عمر تمام ہووے
آوے موت شہاب نوں جدوں مولا پڑھدا سوہنے دے اتے سلام ہووے



کملی والیا روضے تے سد مینوں اپنی کملی نرالی دا واسطہ ای
جنہوں چم چم کر دے حج عاشق اوس روضے دی جالی دا واسطہ ای
تیرے ٹکڑیاں تے جیہڑا پلدا اے ایسے ہر اک سوالی دا واسطہ ای
دے دے دید شہاب نوں تاجدارا تینوں عشقِ بلالی دا واسطہ ای

الضَّلَاوَةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

اوندے جاندے میں آقا ﷺ دے پیر چمد اذرا ہوندا ہے اوہدیاں راہواں دا میں
میرے وگڑے مقدر وی بن جاندے چُنیا ہوندا ہے پاک نگاہواں دا میں
نسبت ہو جاندی نبی نال ہے کر شہاہ بن جاندا شہنشاہواں دا میں
رحمت گٹ شہاب حضور دی نہیں بھانویں پیکر آں لکھاں گناہواں دا میں



اساں عاجزاں گندیاں مندیاں تے آقا کرم ہندا بے حساب تیرا
جیہدا چانناں ساری خدائی وچ اے چہرہ پاک اے اوہ آفتاب تیرا
لے گیا اوہ سرداریاں پھلاں دیاں منگ کے نوری پسینہ گلاب تیرا
سند لے کدی تے قدام وچ آقا روندنا رہندا اے روز شہاب تیرا

الضَّلَاوَةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

کملی والیا روضے تے سد مینوں تیری فرقت اے دل نہیں سہہ سکدا
کیوں لنگدے ہجر وچ دن راتاں سارے جگ نوں گل نہیں کہہ سکدا
اپنے کول ہی رکھ لے لچپالا نہیں میں غیر دوارے تے بہہ سکدا
تیتھوں دور شہاب دا حال کوئی نہیں ایہہ نہیں دور مدینے توں رہ سکدا



لکھن لگاں جد نعت حضور دی میں لب قلم دا چمے قرطاس اودوں
جس دم نام مدینے دا آجاندا پیدا شعراں اچ ہووے مٹھاس اودوں
جس دم ڈباں حضور دی یاد اندر روضے پاک دی آؤندی اے باس اودوں
کراں نور دا ذکر شہاب جس دم ختم ہوندی اے ساری پیاس اودوں

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

کملی والے دی سجنوں یاد اندر رہندا درد اٹھدا میرے سینے دے وچ
اوبدے ہجر دے بارے وچ کی دساں رہیا مزہ نیں لکھ وی جینے دے وچ
ایسے آس تے عمر گزار چھڈی سوہنا سد لے ایسے مہینے دے وچ
اوندا یاد مدینہ شہاب جس دم لگدا ایویں ہاں بیٹھا مدینے دے وچ



کملی والے دی کرنی ثناء خوانی سودا سارا ایہہ چنگی ہرات دا الے
جہڑا نبی کریم دی نعت لکھدا مل پئے جاندا اوبدی بات دا اے
سب کچھ آپ دے کرم دا فیض دسدا جناں سلسلہ دن تے رات دا اے
صدقہ سوہنے دا پیا شہاب چلدا ایہہ نظام ساری کائنات دا اے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

میرے آقا دی شان کی پچھنا اس جتھوں خالی نہیں کوئی سوالی مڑ دا
 اُہدے لباں دے قدسی لین بو سے جہڑا چم کے روضے دی جالی مڑ دا
 کنے جانا سی فیر دربار ولے اوتھوں کوئی فقیر جے خالی مڑ دا
 جاندا روضے تے جے کر شہاب سیفی لے کے آقا توں عشق بلالی مڑ دا



کملی والیا دل دی ایہہ آرزو اے تیرے بوہے تے حاضر غلام ہووے
 اپنے آپ دار ہوئے نہ ہوش کوئی صرف لباں دے اُتے سلام ہووے
 عرضاں کراں میں جالی نوں لا سینے میری اوتھے ای عمر تمام ہووے
 آوے موت شہاب نوں وچ طیبہ نالے وچ گداواں دے نام ہووے

الضَّلَاوَةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

کملی والے دی بارگاہ وچ جا کے پیش دل دا جیہڑا اے حال کر دا
مدد اوس دی سدا خدا کردا کرم اس تے نبی ﷺ لچپال کر دا
خالی موڑ دا نہیں اوہنوں نبی ﷺ سوہنا درِ نبی تے جیہڑا سوال کر دا
منگتا جیہڑا شہاب حضور ﷺ دا اے اوس بندے نوں رب خوش حال کر دا



کدوں عنبر کستوریاں وچ ملدی جہڑی مہک اے اوہدے سینے دے وچ
جیہڑے سوہنے دے دردِ عطا ہوندے عاشق سانجھ کے رکھدے سینے دے وچ
ہنجو دولتِ عظیم ہے عاشقاں دی رکھیں اکھیاں دے آگینے دے وچ
بھانویں رہندا شہاب انگلینڈ اندر دل تے رہندہ اے اہدامدینے دے وچ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

عربی ہاشمی مدنی ڈھول باجھوں رہیا مزہ نہیں ککھ وی جینے دے وچ
کملی والے دی یاد دے وچ سجنو درد اٹھدا اے میرے سینے دے وچ
میرے ورگا ہونا نہیں کوئی دوجا سوہنا سد لے جے ایسے مہینے دے وچ
کچھو وانگ نت سیفی شہاب اڈ کے جاواں پہنچ میں شہر مدینے دے وچ



چاہن والا حضور دا ہاں میں وی لینا سوہنے چھڑوا اے عذاب کولوں
میرے تاجور نے آپچاونا ایں قبر والے حساب کتاب کولوں
ہے سی ایہو عقیدہ صحابیاں دا جا کے پچھ لے توں اصحاب کولوں
جنت وچ وی سنن گے نعت آقا ﷺ اپنے ایس فقیر شہاب کولوں

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

خاص نور خدا دا نبی ساڈا آیا دنیا اچ کامل انسان بن کے
کون اللہ نوں اتھے پہچان داسی سوہنا آیا اے اہدی پہچان بن کے
ملیا آپ نوں دشمن جو اپنا ملے آپ اوہنوں مہربان بن کے
اوہ شہاب محبوب خدا دا اے جیہڑا عرشاں تے گیا مہمان بن کے



میرے نام حضور دی بارگاہ چوں نہ پیغام نہ چٹھی پیاری آئی
خواب وچ وی کدی نہ گھر میرے کملی والے دی سوہنی سواری آئی
جدوں کیتی تیاری حضور ولے آڑے سدا بدبخت لا چاری آئی
بیلی سارے مدینے چوں ہو آئے میری اے شہاب نہ واری آئی

الضَّلَاوَةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

کملی والیا کملی دا واسطہ ای اپنے کمی نوں کول اک وار سد لے
میں تے روز ایہہ پیادعا کرنا اپنے کول سارے عاشق زار سد لے
ایہو آرزو دل وچ ہے میرے تیتھوں کر دیاں جان نثار سد لے
تیرے درتے شہاب نوں موت آوے سن کے سوہنیا کدی پکار سد لے



ماں باپ لئی ہر کوئی چن ہندا سارے چناں توں عالی مدینے والا
واجاں ماردا آجاؤ کول میرے بھر دا جھولی اے خالی مدینے والا
جیویں سوہنے دے بوہے دی مثل کوئی نہیں دیندا بھیک مثالی مدینے والا
میں شہاب غلام لچپال دا ہاں میری کر دا رکھوالی مدینے والا

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

کس کس کرم دی کراں میں گل ربا حدوں ودھ ہے کرم فرمائی تیری
اک میں کی ساری خدائی کر دی ربا سوہنیا حمد سرائی تیری
توتے ازل توں بادشاہ ہیں مولاء ہر کوئی من دا اے کبریائی تیری
اک شہاب وچارنے دی گل کی اے رزق کھاندی اے ساری خدائی تیری



کملی والیا کرم دے مار چھٹے غوث اعظم جیلانی دا واسطہ ای
تیرے دین توں جہیزا قربان ہو یا اوہدی چڑھدی جوانی دا واسطہ ای
کر بل وچ جو سید نے پیش کیتی اس عظیم قربانی دا واسطہ ای
دے دے دید شہاب نوں تاجدارا اپنی صورت نورانی دا واسطہ ای

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

اوہدی ذات نے ایسا نوازیہ اے کسے شے دی رہ گئی تھوڑ کوئی نہیں
کملی والے دے بوہے توں منگ کھانا بوہے بوہے توں منگن دی لوڑ کئی نہیں
لوندا رہوے کوئی پیا ہزار فتوے اوہدے در توں سکدا موڑ کوئی نہیں
لکھاں سخی شہاب نہیں جگ اُتے میرے سوہنے محمد ﷺ دا جوڑ کوئی نہیں



آئینوں مدینے وچ لے چلاں شافع محشر دا ہے دربار اوٹھے
اوٹھے شاہ تے گدا وچ فرق کوئی نہیں جا کے منگدا کل سنسار اوٹھے
اوس پاک دربار وچ بھل جاندا جان والیاں تائیں گھر بار اوٹھے
طیبہ پاک شہاب ہے اوہ بستی وسدا اللہ کریم دا یار اوٹھے

الضَّلَاوَةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

رنگیا گیا جو آقا دے رنگ اندر کدی رنگوں بے رنگ نہیں ہو سکا
دامن جینے کھلاریا اس در تے دامن اوس دا تنگ نہیں ہو سکا
چمکے چن پیا لکھ افلاک اتے ہبشی ورگا ملنگ نہیں ہو سکا
منکر یارسول دا اے سیفی کسے چنگے دا سنگ نہیں ہو سکا



اوہنوں مل گیا سمجھ لو رب سچا جنوں نبی دی ذات جناب مل گئی
طلب دنیا دی اوہنے کی کرنی جنوں اوہ ہستی لا جواب مل گئی
اہنوں ہور کتاباں دی لوڑ کوئی نہیں جنوں پاک قرآن کتاب مل گئی
عشق نبی دا جنوں شہاب ملیا دولت اوسنوں این بے حساب مل گئی

لکھن لگاں حضور دی نعت جس دم قلم آکھیا اے کنی وار مینوں
 لکھن لگاں ایں نعت توں نال میرے پینڈا لگدا بڑا دشوار مینوں
 جیہدیاں صفتاں آپ رحمان کر دا اہدے نام شریف توں وار مینوں
 لکھیں سنبھل کے نعت شہاب سیفی اللہ پاک کیتا خبردار مینوں
 سوکھی گل سی جے میرے نال لکھدوں گل بات توں کوئی جے طور والی
 ادنیٰ قلم ہو کے کیویں بات لکھاں شانناں والے محمد دے نور والی



نام علی دا مشکلاں ٹال دیندا آوے مشکل تے علی نوں یاد کر لیں
 سکی سڑی ہوئی کھیتی نصیب دی اے لے کے علی دا نام آباد کر لیں
 علی پاندا اے خیر سوالیاں نوں توویں اپنی پوری مراد کر لیں
 مشکل آوے جے تینوں شہاب سیفی کر کے نجف نوں منہ فریاد کر لیں

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

جے تو چاہنا اے ہووئے نجات تیری آجا کول غم خوار دے لے چلاں
 جتھے بخشش دی لائی مہر جاندی وچ اس دربار دے لے چلاں
 دنیا وچ تے دھکے ای لہ دے نے تینوں کول ہن پیار دے لے چلاں
 پے جائے تیرا وی مل شہاب سیفی تینوں کول سرکار دے لے چلاں



نام علی دا مشکلاں ٹال دیندا آوے مشکل تے علی نون یاد کر لیں
 سکی سڑی ہوئی کھیتی نصیب دی اے لے کے علی دا نام آباد کر لیں
 علی پاندا اے خیر سوالیاں نون توویں اپنی پوری مراد کر لیں
 مشکل آوے جے تینوں شہاب سیفی کر کے نجف نون منہ فریاد کر لیں

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

اللہ دیوے جے نور بصیرتاں دا ہووے کھرا یا کھوٹا ضرور دسدا
دلاں وچ جے بغض دی اگ ہووے سارا جگ تندور تندور دسدا
دساں کم دی گل شہاب تینوں آوے جدوں سرور سرور دسدا
علی نال ہے تاہیوں ایں پیار ساڈا سانوں علی چوں نبی دا نور دسدا



تیرا شکر اے میرے کریم ربا تیری رحمت دی مینوں پناہ مل گئی
کملی والے محبوب دے آسے تے تیرے در تک آن دی راہ مل گئی
تیرے سوہنے محمد دی کرم والی ربا سوہنیاں مینوں نگاہ مل گئی
اودھے شہر چوں جا کے شہاب مینوں دولت درد والی بے پناہ مل گئی

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

اوہدے کرم بن نہیں کمال مل دا لوکی دوڑ دے پھرن کمال خاطر
لکھاں ہون پروانے فدا آکے کملی والے محبوب دی آل خاطر
تر گئے اوہو ای ہوئے قربان جیڑے کملی والے محبوب دی آل خاطر
رودا پیا شہاب غریب ایتھے فیر کدوں دا اوہدے وصال خاطر



ماراں کھادیاں جیویں بلال تیرے ماراں اینیاں کوئی نہیں کھا سکدا
لکے کدی نہیں عشق تے مشک رہندے عشق نبی نون کون لکا سکدا
سخی نہیں کوئی حسین کریم وانگوں بچے دین لئی جیڑا کہا سکدا
آقا پھڑی اے باہنہ شہاب جیدی غلبہ اوس تے کوئی نہیں پاسکدا

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

میرے مالکا مناف قصور کر دے تیری بارگاہ وچ گناہ گار آیا
ساری زندگی گزر گئی غفلتاں وچ مولا ہو کے ہاں شرمسار آیا
تینوں واسطہ اپنے یار دا اے تیرے در اتے خاکسار آیا
دیدے ربا قرار شہاب تائیں ٹھا دل لے کے بے قرار آیا



مستی علی دے جام دی دکھری اے جیروا پی لیندا محرم راز ہوندا
کوئی داتا کوئی غوث کوئی قطب بن دا مہر علی غریب نواز بن دا
مائی رابعہ بصری بو علی کوئی مست قلندر شہباز بن دا
علی علی دے نال شہاب چنگا ہر انجام بن دا تے آغاز بن دا

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

آج توں در حضور تے جھکدا نہیں ہے کوئی حشر نوں تینوں بچان والا
نفسی نفسی جدوں پکار پینی لبھنا تینوں نہیں کوئی چھڑان والا
تینوں شدت دی جدوں پیاس لگتی دوجا کون این کوثر پلان والا
جدوں کسے نہیں تیرا شہاب بنناں کملی والے ای ہونا بچان والا



سوہنے باجھ کوئی عرش توں پار جا کے رب دے سامنے نہیں کھلو سکدا
امت واسطے چھوڑ آرام اپنا دوجا اسطرح کوئی نہیں روسکدا
پیکر رحمتاں دا بن کے جو آیا داغ عیاں دے صرف اوہ دھوسکدا
دوزخ وچ کوئی اہدا غلام جاوے ایہہ تے کدی شہاب نہیں ہوسکدا

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

جس دے اتے حضور دی نظر ہووے لوڑ اوہنوں کیڑے انعاماں دی اے
نظر رحمت پلانندی اے مٹے جنوں حاجت اوہنوں کدوں کوئی جاماں دی اے
سب تے کرم نوازیاں ہندیاں نیں او تھے بات نہ خاصاں تے عاماں دی اے
نجدی لکھ پئے پاؤن شہاب رولا جنت تے آقادے صرف غلاماں دی اے



میںوں دوزخ دی اگ دا خطرہ نیں لگی عشق دی اگ جو سینے وچ اے
کملی والے محبوب توں دور رہ کے مزہ لکھ دا رہیا نہ جینے وچ اے
اوہنوں کوئی طوفان نیں ڈوب سکدا چڑھیا نبی دے جیڑا سفینے وچ اے
جنت اپنی ملاں توں بھالدا رہو جنت ساڈی شہاب مدینے وچ اے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

کملی والیا ہاشمی شہر یارا اپنے عشق وچ کرلے اسیر مینوں
قیدی رہواں میں جس وچ عمر ساری اپنے پیار دی پاوے زنجیر مینوں
ایسے حال وچ آوے جے موت میری میرے خواہاں دی ملے تعبیر مینوں
جنت کراں قربان شہاب سیفی لوکی کہن جے تیرا فقیر مینوں



میری خاک وی کہوے کہ یا مولا عشق نبی اچ کر دے اکسیر مینوں
وگدا رہوے جو آقا دی یاد اندر ایسا اکھیاں لئی دے دے نیر مینوں
ایہو آرزو اے قسمت لے جاوے در آقا تے وقت اخیر مینوں
منگدا جنت نیں تیتھوں شہاب مولا کملی والے دا کر دے فقیر مینوں

الصلوة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله

جدے درگی ہو سرکار کوئی نہیں تینوں اوس سرکار وچ لے چلاں

جھوں لھبڈے تاج بلندیاں دے اوس نور دی بار وچ لے چلاں

ساڈے واسطے روندے سی آپ جتھے تینوں آغار وچ لے چلاں

جدے جہیا شہاب دربار کوئی نہیں تینوں اوس دربار وچ لے چلاں

الضَّلَاوَةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

میں کی لکھاں اس نبی ﷺ دی شان اندر صفتاں جیدیاں خود رچمن کر وا
گھل کے آپ درود و سلام مولا ظاہر نت پیا سوہنے دی شان کر وا
لے کے آدم توں عیسیٰ دی ذات تیکر جہدی شان ہر نبی بیان کروا
ایہہ شہاب وی نبی دی نعت کہہ کے اپنی بخشش وا پیا سامان کر وا



ماری مت گئی ملاں ایں کیوں تیری عیب لبھناں ایں نبی دی شان اندر
تینوں پتہ نہیں جرم سنگین کنائیں پڑھ کے ویکھ لے ذرا قرآن اندر
آکھے لگ کے یار ابلیس دے توں نفرت وٹڈنائیں ہر مسلمان اندر
جو گستاخ شہاب حضور ﷺ دا اے ہونا اوہنے ذلیل جہان اندر

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

میرا بیڑا طوفان نہیں ڈوب سکدا میں غلام از لوں غوثِ جلی دا ہاں
میرے ولے جو سدا دھیان رکھدا میں مرید ایسے کامل ولی دا ہاں
حُب آل دی وی میرے سینے وچ اے پیروکار نالے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوا ہاں
پہلے دن توں ای میں تے شہاب سیفی منگتا صرف حضور دی گلی دا ہاں



نعت کہن دا مینوں شعور ملیا درِ مصطفیٰ ﷺ دی ایہہ عطا یارو
لکھاں نعت جس ویلے حضور دی میں ملدا چین مینوں بے بہا یارو
کسے غیر توں کدی میں ڈر دا نہیں میرا پیر علی مرتضیٰ یارو
نہیں شہاب یزیدیاں کول بہندا اہل بیت دا سچا گدا یارو

الضَّلَاوَةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

دل دا فرش وچھا کے ہاں بیٹھا سوہنا جے ایدھروں اک وار لنگھ جائے
جیدے وصل لئی تڑپیا عمر ساری دیندا ہو یا اہ مینوں دیدار لنگھ جائے
ویڑا دلدا طور دے وانگ لگے نور والا جے ویڑے چوں یار لنگھ جائے
دین دنیا سنور شہاب جاوے جیکر سن کے میری پکار لنگھ جائے



الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

منکر نکیر کا قبر میں سوال و جواب

پچھنا جدوں نکیراں سی رب بارے وحدہ میں آکھ سنا دتا
 مَا دِينُكَ اوناں جدوں پچھنا نعرہ سی اسلام دا لا دتا
 پچھنا اوناں رسول ہے کون تیرا منہ طیبہ دے ول پرتا دتا
 تک کے کول شہاب حضور تائیں قداماں وچ میں سیس جھکا دتا

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

حضورِ ولیّ اللہ ﷺ کا منکر نکیر کو حکم

حکم آقا نے دتا فرشتیاں۔ نوں اینوں چھوڑ دیو ہے ایہہ غلام میرا
زندگی ساری اس نعت اچ صرف کیتی ذکر کر دا سی صبح و شام میرا
قبر وچ وی دیکھ لو آکے تے لیندا صرف شہاب پیا نام میرا
کہیا منکر نکیر نے آجناں قبر وچ اک محفل سجا لئیے
تیرے نال حضور حضور کر کے سہرے اسی وی آپ دے گا لئیے

نعت کا صلہ

کہن لگے نکیر مبارکاں نی صلہ نعت دا اج توں پا رہیا ایں
زندگی ساری توں رہیا ایں نعت لکھدا ہن وی نعتاں دے موتی لٹا رہیا ایں
کنے چنگے نے یار نصیب تیرے قبر وچ وی لطف اٹھا رہیا ایں
قسمت والا ایں یار شہاب سیفی نعتاں والے نوں نعت سنا رہیا ایں



ساری زندگی نور دا ذکر کیتا تاہیوں نور دی ہے سی برسات ہو گئی
جیدے ہجر وچ تڑپیا عمر ساری اوہدے نال اج تے ملاقات ہو گئی
آیا جدوں عذاب تے اوس ویلے ڈھال بن کے سامنے نعت ہو گئی
نعت والے دی سونہہ شہاب سیفی صدقے نعت دے میری نجات ہو گئی

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

جناں مینوں نوازیا نبی میرے اپنی میری تے ذرا اوقات نہیں سی
اہدی نسبت آگئی کم میرے میرے وچ تے ہور کوئی بات نہیں سی
پردہ پوش نے کج لے عیب میرے چنگے انج تے میرے حالات نہیں سی
نور والا شہاب بے پوچھدا ناں ہونی نور دی کدی برسات نہیں سی



کملی والے دا سجنوں نام سن کے اسپنے اندر غریب دے ٹھنڈ پیندی
لواں نام حضور دا جس ویلے انج جاپدا منہ وچ کھنڈ پیندی
یا رسول دا لاواں میں جدوں نعرہ سچ جھوٹ وچ اودوں میں ونڈ پیندی
ایہوں نعرہ شہاب جد سنے جیکر منہ تے منکر دے آکے چنڈ پیندی

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

کملی والے دی شان دی کی پچھنا ایسی ہوتے کسے دی شان کوئی نہیں
خبرے کدوں توں دنیا لکھ رہی اے ختم ہو یا میرا جے بیان کوئی نہیں
آیا بشر دا پہن کے اوہ جوڑا کملی والے جیا ہور انسان کوئی نہیں
عربی مدنی وانگ شہاب رب دا نبیاں عرش تے جا مہمان کوئی نہیں



دل دا فرش وچھا کے ہاں بیٹھا سوہنا جے ایدھروں اک وار لنگھ جائے
جیدے وصل لئی تڑپیا عمر ساری دیندا ہو یا اہ مینوں دیدار لنگھ جائے
ویڑا دلدا طور دے وانگ لگے نور والا جے ویڑے چوں یار لنگھ جائے
دین دنیا سنور شہاب جاوے جیکر سن کے میری پکار لنگھ جائے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

حسن والیا حسن دا واسطہ ای کھیتی دلدی ہوئی ویران میری
پانی وصل دا لا کے ہری کر دے تڑپن لگ پئی جسم اچ جان میری
بنا تیرے نہیں ہوو کوئی۔ دنیا تے تیرے نال ہے ہن پہچان میری
تیرے ہجر اچ عرض شہاب کر دا دنیا بن گئی اک زندان میری



جے توں ملا نہیں نعت دی گل کرنی اپنی گندی اوقات دی گل ناں کر
ریج الاول دی جے نہیں سار تینوں فیر شپ برات دی گل ناں کر
جدے وچ ناں آقا دا ذکر ہووے ایسے دن یارات دی گل ناں کر
چھڑیا ذکر شہاب حضور دا اے اتھے اپنی ذات دی گل ناں کر

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

ایہو منگناں واں میں دعا اکثر عشق نبی دا مینوں وی رنگ مل جائے
جیہڑے اوس دربار تک لے جاون اوناں عاشقاں دا سچا سنگ مال جائے
سبق پیار دے ازبر ہون سارے مینوں ادب دا اک اک ڈھنگ مل جائے
تاج تخت شہاب میں کی کرنے جیکر ملے تے عشق دا رنگ مل جائے

استاد محترم دے بارے وچ

نیاں شاعراں دی کمی نہیں اتھے اسپیں کی کی صفت بیان کریئے
حرف حرف حضور دی نعت جا پے حرف حرف تے جدوں دھیان کریئے
سارا فیض ایہہ میرے استاد دا اے اپنے آپ اتے کاہنوں مان کریئے
ناصر شاہ دے شعراں توں سبق لیکے کیوں نہ عشق دے بوٹے جوان کریئے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

گاواں گیت نہ کیوں استاد دے میں جبے ای شعر دا دسیا ڈھنگ مینوں
ساری نظر ایہہ اس درویش دی اے عشق نبی دا ملیا اے رنگ مینوں
نبی پاک دے در دا فقیر ہاں میں کملی والے دا آکھو ملنگ مینوں
میں شہاب مدینے دے گیت گاواں منکر لکھ واری کرن تنگ مینوں



جیناں میرے تے کرم استاد دا اے ایذا ذکر بیان نہیں کر سکدا
اہدے وچ اک رائی وی جھوٹ کوئی نہیں میں تے نال ایمان نہیں کر سکدا
کیتا میرے تے کرم استاد جیویں کوئی عام انسان نہیں کر سکدا
میں ممنون شہاب استاد دا ہاں میں تے فن تے مان نہیں کر سکدا

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

نظر کرم استاد دی رہوئے مولا مینوں نعت دی راہ تے لائی جاندی
میری ماں دی خاص دعا سمجھو بُرے کماں نوں جیہڑی بچائی جاندی
بدلی رب کریم دے کرم والی بارش میرے تے سدا برسائی جاندی
لگن ایہہ تے شہاب حضور دی اے مینوں ہور دا ہور بنائی جاندی



حضرت آدم ایوب یعقوب یوسف شانناں والے نیں نبی ایہہ سارے ربا
حضرت موسیٰ داؤد تے پاک عیسیٰ ایہہ وی نبی رسول نیں سارے ربا
اک لکھ تے کئی ہزار وچوں کئی چن تے کئی نیں تارے ربا
آکھے سچ شہاب تمام نالوں رتبے ساڈے حضور دے بھارے ربا

الضَّلَاوَةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

لکھدا پیا ہاں نعت حضور دی میں قلم آپے قرطاس تے تری جاندا
صدقہ نعت رسول دا کہہ دساں سارے دکھ میں ہس ہس جری جاندا
مینوں جدوں طوفان آ پاؤن گھیرنے لا کے تیری نعرہ رسالت دا تری جاندا
صدقہ نعت دا سدا شہاب سیف کھوٹی قسمت نوں کیتی ہری جاندا



میں تے کوئی وی شعر نہیں آپ لکھدا ہتھ پھڑکے کوئی لکھوائی جاندا
زیر زبر وی غلط نہیں ہون دیندا حرف حرف نوں خود چمکائی جاندا
گل کرنی مینوں نہیں کوئی اوندی گلاں کرنیاں کوئی سکھائی جاندا
کند ذہن ناچیز شہاب اتے کملی والا ای کرم فرمائی جاندا

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

پچھلی رات سرورِ داسی ویلا اپنا جلوہ یار دکھا گیا اے
مدتاں بعد اج دل دے صحراتے مینہ اپنے وصل دا پا گیا اے
میں قربان نوازشاں اہدیاں توں آکے خود مدہوش بنا گیا اے
ہوگئی پوری مراد شہاب میری مرے رون دا مل اوہ پا گیا اے



الْصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

عاشقان رسول دی وچ خدمت پیش اپنی میں ایہہ کتاب کیتی
جنوں پڑھ کے تشنگی دور ہو جائے اپنے دلوں میں کوشش جناب کیتی
ہوؤے ادب توں دور نہ گل کوئی رکھ کے سامنے سارے آداب کیتی
اللہ واسطے کر اصلاح دینا ہوؤے غلطی جے کوئی شہاب کیتی



علامہ سید محمد سعید الحسن شاہ صاحب

کی مستند و جامع تصانیف

(قرآن و بائبل کی روشنی میں)

• قرآن کریم • احادیث مبارکہ • توراہ • زبور
• انجیل • صحائف انبیاء اور اخبارات و جزائد کے سینکڑوں
حوالہ جات سے مزین کتاب۔ ایک مستند تاریخی دستاویز

حیرت
لامام الانبیاء

• رہبر کائنات ﷺ کے اعضائے مبارک کے حسن و جمال کا تذکرہ
• روزمرہ کے معمولات پر بحث • پسندیدہ مشروبات و ماکولات
کی تفصیل • مختلف جسمانی و روحانی امراض کا طبی علاج بھی
کتاب ہذا میں ملاحظہ فرمائیے۔

رہبر زندگی
طب نبوی

کتاب ہذا میں رسول عربی ﷺ کے رشتہ داروں اور اعز و اقارب کے علاوہ
آپ کے دیگر مشفقین مثلاً رضاعی رشتہ دار، ہم شکل، مدنی نقیب، خلفاء راشدین
کا بیان بھی • بارگاہِ اقدس کے مفتیان، مقام • خطباء کرام • مؤذنین ذی وقار
حضور ﷺ کے مقرر فرمودہ عہد پدارت اور دربار رسالت آپ ﷺ کی طرف
سے شاہان زمانہ کے نام لکھے گئے خطوط کی تفصیلات مکمل سند و حوالہ کے ساتھ رقم بند کی گئی ہیں

خانان
مصطفیٰ

• کیا خلی نماز سجدہ مصطفیٰ کے میں مطابق ہے؟

• بار بار رخ یدین نہ کرنے، بلند آواز سے آمین نہ کہنے اور میں رکعت نماز
تراویح کا کیا ثبوت ہے؟

• بخاری و مسلم و دیگر کتب احادیث کے ہوتے ہوئے نقدی کیا ضرورت ہے؟
• ان سوالوں کا تفصیلی جواب جاننے کے لئے کتاب ہذا کا مطالعہ فرمائیے!

صلوات الرسول
بک التورہ کی حلال

مکتبہ نوریہ رضویہ گلگت کے فیصلہ

علماء و خطباء اور عوام الناس کیلئے مفید اور نایاب سلسلہ

استاذ العلماء

حضرت علامہ

محمد رفیع عثمانی صاحب

بارہ جلدوں پر مشتمل

کنز الخطب

کتاب خانہ

بارہ جلدوں پر مشتمل	مخبر الحرم شریف سے متعلق بارہ خطبوں پر مشتمل	جلد اول
بارہ جلدوں پر مشتمل	ولایت کا تعارف اور ماہِ مفرغ میں وصال پانے والے چند اولیاء اللہ کے حالات پر مشتمل	جلد دوم
بارہ جلدوں پر مشتمل	میلا دسر کا رد و عالم علیہ السلام پر مشتمل	جلد سوم
بارہ جلدوں پر مشتمل	علاماتِ محبت اولیاء اللہ اور حضور شیخ عبدالقادر جیلانی کے حالات پر مشتمل	جلد چہارم
بارہ جلدوں پر مشتمل	مقصودِ تخلیق اور نماز پر مشتمل	جلد پنجم
بارہ جلدوں پر مشتمل	جمادی الاخریٰ کا تعارف اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے پہلوؤں پر	جلد ششم
بارہ جلدوں پر مشتمل	سراج النبی علیہ السلام کے علاوہ امام اعظم ابوحنیفہ و خواجہ ابومیری اور دیگر موضوعات پر مبنی	جلد ہفتم
بارہ جلدوں پر مشتمل	فضائل شعبان، نسا، ذکرہ، قول قبلہ اور محبتِ علم پاکستان مولانا سید امجد علی اور دیگر موضوعات پر مشتمل	جلد ہشتم
بارہ جلدوں پر مشتمل	فضائلِ رمضان، فضائلِ قرآن، فضائلِ ایامِ القدر کے علاوہ حضرت علی اور سیدہ فاطمہ اور جنگِ بدر جیسے موضوعات پر مشتمل	جلد نواں
بارہ جلدوں پر مشتمل	فضائلِ عید الفطر، فضائلِ صدقہ کے علاوہ حقوقِ والدین، روحِ ملک الموت، موت کی موت اور ایصالِ ثواب جیسے اہم موضوعات پر مشتمل	جلد دسواں
بارہ جلدوں پر مشتمل	فضائلِ زعمہ، فضائلِ سورہ، تفسیر کعبہ اللہ عمرہ اور دیگر موضوعات پر مشتمل	جلد اسیں
بارہ جلدوں پر مشتمل	فضائلِ دی المومنین، فضائلِ وصالِ حج، میدا لگائی، شہادتِ حضرت عثمان غنی، شہادتِ حضرت عمر اور دیگر موضوعات پر مشتمل	جلد سولہواں

کتاب خانہ سے طلب فرمائیں

آج ہی اپنے قریبی
مکتبہ نورینہ رضویہ بلبرک اے فیصل آباد
کتاب خانہ سے طلب فرمائیں

صاحب طرز ادیب، شعلہ نوا خطیب اور صدیقی ایوارڈ یافتہ سیرت نگار

سیرتِ محمدیہ

کی آسان، مختصر، متنوع مشہور آفاق کتب

اخلاق بتول فاطمہ

بنت رسول ﷺ اور سردار خواتین جنت کی اخلاقی صفات کا ذکر جمیل۔ انتہائی آسان الفاظ میں اور پرتاثر انداز میں بچیوں کی اخلاقی تربیت کا بنیادی نصاب۔ فرقہ داریت سے بالاتر، حقیقت اور عقیدت کا حسین استخراج، بطرز اخلاق رسول ﷺ۔ جناب ندیم باری کا تابندہ شاہکار

اخلاق صدیق اکبر

خلیفہ اول اور یارِ غار رسول ﷺ کی اخلاقی صفات کا قرآن و حدیث اور سنت کی روشنی میں دل پذیر بیان۔ اظہار عقیدت کا ایک نیا اسلوب۔ ندیم باری کے مخصوص انداز سادہ الفاظ میں ایک گرانقدر پیشکش جو فرتے فرتے سے پاک۔ سب کے لائق مطالعہ ہے۔

اخلاق حسین

شاہکار تربیت رسول ﷺ اور سردارِ لو جوان جنت کے سیرت و اخلاق پر پہلی کتاب اخلاق حسین کے عظیم موضوع پر یہ پہلی اکلوتی کاوش ہے جسے ہر فرتے اور ہر مسلک کے لوگوں نے پسند کیا ہے۔ جناب ندیم باری کی جدت طبع کا باکمال شاہکار جس میں اخلاق رسول ﷺ کی ایک نمایاں جھلک نظر آتی ہے اس سے ملت اسلامیہ کے اتحاد کا پیغام ملتا ہے کہ حسینؑ سب کے ہیں اور بے شک وہ اخلاق کی اعلیٰ ترین بلندیوں پر قاتر تھے جس کی بدولت انہیں شہادتِ عظمیٰ نصیب ہوئی۔

روشن باتیں

"TRUTH IN STORIES"

ابتدائی قاعدہ سیرت رسول ﷺ بچوں کیلئے کہانیوں کی صورت میں

اخلاق قائد اعظم

بابائے قوم اور بانی پاکستان کے اخلاقی اوصاف کا بیان بے شک ان کا کردار ہر پاکستانی کیلئے نمونے اور ہر قیادت کیلئے آئینے کی حیثیت رکھتا ہے۔ جناب ندیم باری کی جودت طبع اور عزت بیان کا بے مثال شاہکار

مکتبہ اربعہ رضویہ گنگوڑی فیصل آباد

041-626046

صوفی محمد شہا الدین شہاب سیفی حنفی

کی دیگر کتب

سالگرمیہ

سومنا مرشد

آئینہ سچے چلاں

نگینہ سچے چلاں

8344